



ایک طلب کرنیوالے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر
رہے گا (یعنی) کافروں پر (اور) کوئی اسکو ٹال نہ سکے گا

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندہری)

سورة المعارج

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1)

ایک طلب کرنیوالے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2)

(یعنی) کافروں پر (اور) کوئی اسکو ٹال نہ سکے گا

مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3)

اور خدائے صاحب درجات کی طرف سے (نازل ہوگا)

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

جس کی طرف روح (الامین) اور فرشتے چڑھتے ہیں

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَامُهُ أَرْبَعًا وِثْمِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4)

(اور) اس روز ہے گا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہو گا

فَأَصْدَبُوا صَدْبًا جَمِيلًا (5)

(تو تم کافروں کی باتوں کو) حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6)

وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے

وَنَرَاهُمْ قَرِيبًا (7)

اور ہماری نظر میں نزدیک

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8)

جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9)

اور پہاڑ (ایسے) جیسے (دھنکی ہوئی) رنگین اون

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)

اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسانہ نہ ہو گا

ج
يُبْصِرُ وَهُمْ

(حالانکہ) ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے

يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11)

(اس روز) گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں (سب کچھ) دے دے یعنی اپنے بیٹے

وَصَاحِبِئِهِ وَأَخِيهِ (12)

اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13)

اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14)

اور جتنے آدمی زمین میں ہیں (غرض) سب (کچھ دیدے) اور اپنے تیس عذاب سے چھڑالے

كَلَّا

(لیکن) ایسا ہرگز نہ ہوگا

إِنَّمَا لِحَى (15)

وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے

نَزَّاعَةً لِّلشَّوْصَى (16)

کھال ادھیڑ ڈالنے والی

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17)

ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے (دین حق سے) اعراض کیا

وَجَمَعَ فَأَوْسَى (18)

اور (مال) جمع کیا اور بند کر رکھا

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19)

کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20)

جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)

اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے

إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22)

مگر نماز گزار

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23)

جو نماز کا التزام رکھتے (اور بلا ناغہ پڑھتے) ہیں

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24)

اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

(یعنی) مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26)

اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27)

اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا يُنۡوِنَ (28)

بیشک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہو جائے

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفۡرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29)

اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں

إِلَّا عَلَىٰ أُرۡوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلۡمُومِينَ (30)

مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ (ان کے پاس جانے پر) انہیں کچھ ملامت نہیں

فَمَنۡ ابۡتَغَىٰ وَرَءَا ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)

اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهۡدِهِمْ رَٰعُونَ (32)

اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33)

اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34)

اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں

أُولٰٓئِكَ فِي جَنَّٰتٍ مُّكۡرَمُونَ (35)

یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہونگے

فَمَالِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا قَبۡلَكَ مُهۡطِعِينَ (36)

تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيزِينَ (37)

(اور) دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر (جمع ہو جاتے ہیں)

أَيُّطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38)

کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا

كَلَّا

ہرگز نہیں

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39)

ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40)

ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41)

(یعنی) اس بات پر (قادر ہیں) کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں

فَذَرَّهُمْ يُخَوِّضُوا وَيَلْعَبُوا

تو (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو

حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42)

یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ انکے سامنے آ موجود ہو

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِصُونَ (43)

اس دن یہ قبر سے نکل کر (اس طرح) دوڑیں گے جیسے (شکاری) شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی

ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44)

یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com